

32. ALSAJADAH (SUJUD)

Suet ke-32: 30 ayat

Ngen sembut gen Allah De Maho Pengasiak, Maho Penyayang.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Alief Laam Mi'im.

الْم

2. Tu'unne Al Quran gik coade ku'anggap gen si, (adeba) kunei Tuhan semesta alam.

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

٢

3. Tetapi jano udi (tun kafir) nadeak si: Muhammad meade-ade ne"sebeneane Al Quran do'o adeba (gik teko) jakuni Tuhanmu supayo udi megeak ingetan ngen kaum gik nati teko gen udi-udi tun gik bagak minget snati udi mugo-mugo udi dapet penunjuk.

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ

يَهْتَدُونَ

4. Allah ba gik menciptakan lenget ngen bumei gen jano di antaro keduei ne lem num maso lejeu'o si bersemayam di nak das "arsy coade mageak udi seleyen jakunei-nya tun penulung gen coat un mageak syfa'at mako janogen udi coa kemleak.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ
مِّنْ دُونِهِ ۗ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

٤

5. Si mantau urusan jakuni lenget kunei bumei, sudo'o (urusan) do'a kenek jakunei-Nya nak lem de bilei gik an nien) adeba sibeu taun tematoa pritungan ko

يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ
إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

٥

6. Gik sudo'o do'o adeba tuhan gik atinamen gik gaib ngen gik nyato gik maha perkasa l'gei maha penyayang.

ذَٰلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

٦

7. Gik menea kate-kate sesuateu gik si ciptakan sebaik-baik ne gen gik mulai penciptaan manusio jakuni pitak.

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۗ وَبَدَأَ خَلْقَ

الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

٧

8. Sudo'o si jemijeikan keturunan ne jakunei sari pati bi'o gok hino (bio mani). ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾
9. Sudo'o si sempurnakan temiyut my milem (awak) ne rah (ciptaan)-ne si memijeji bageak udi temngo, pengleak gen atia (tetapi) udi didik nien mojoa. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾
10. Tugen udi miling: "jano mako udi sudo laput (ajoa) nak lem pitak, udi benea-benea lak berade nak lem ciptaan gik bleu. Mako (sebeneane) udi ngikea mako temeune. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴿١٠﴾
11. Madeak ba: malaikat maut gik semreak untuk (mekot nyabei) udi mako madem udi :jajeu cumin jakunei Tuhan udi ba udi mako meleak. ﴿١١﴾ قُلْ يَتَوَفَّنَا مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾
12. Ngen (alangka sabanna) jiko sekirone udi kemleak katiho tun-tun gik beduso do'a temunuk ukune nak adep Tuhan (udi miling): ya Tuhan uku, uku bik sudo kemleak ngen temngo, mako belek ba udi adeba tun-tun gik yakin kemerjo amal baik, sebeneane udi adeba tun-tun gik yakin. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمَجْرُمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾
13. Dan kaleu suda tetepba miling (tetapan) ne, ngen setiap-tiep jiwa petunjuk (bageak) ne. kaleu sudo tetepba miling (tetapan jakuni dari pado uku: "sebeneane la uku penoak nerako jahannam do'o ngen semat gen manusia besamo-samo. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَٰكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾
14. Mako mdingba ko (sikso dio) sembakan udi coa teminget tak akan betemeu ngen melarnu dio (milei kiamat). Sesungguhnya فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا

<p>keme bik coa teminget udi (pulo) ngen mdingba sikso gik an. Sembabkan jano gik selalu udi kemerjokan.</p>	<p>ذُنُوبِكُمْ^ط وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾</p>
<p>15. Sesungguhne tun-tun gik berimen ngen ayat-ayat keme adeba tun-tun gik pabilo temingetkan ayat-ayat (keme) dio menyungkur sujud, gen bertasbih ngen memuji Tuhanne. Sedangkan dio coa menyombongkan diri.</p>	<p>إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾</p>
<p>16. Lambun dio cak jakuni tidoane. Sedang dio bedo'a ngen Tuhanne ngen takut gen harap, ngen dio menafkahkan sebageak jakuni rezki gik keme mageakkan ngen udi.</p>	<p>تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾</p>
<p>17. Seorang pun coa mengetahui jang gik sembunyikan untuk udi yaktu (bermacam-macam nikmat) gik menyedapkan pandangan mato sebagai balasan ngen jang gik sudo udi kerjokan.</p>	<p>فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾</p>
<p>18. Mako tun gik beriman seperti tun fasik (kafir) udi coa srei.</p>	<p>أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا^ع لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾</p>
<p>19. Adopun tun-tun gik briman gen mengerjokan amal-amal saleh mako bagi udi surga-surga tempat diemne, sebagai pahala ngen jang gik sudo udi kerjokan.</p>	<p>أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾</p>
<p>20. Adeba tun-tun di fasik (kelua kunai gais agamo). Mako penan tinga ne nak lem nerako. Tiep-tiep kepeak o lak kelua kunai ne. kepeak o neleak lem o igei gen madeak gen kape'ak o: nida' ba udi sikso nerako'.</p>	<p>وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ^ط كُلَّمَا أَرَادُوا أَن تَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تَكذِّبُونَ ﴿٢٠﴾</p>
<p>21. Demi, mako keme mideb (nupak) magea kapoak o, sikso di pa'ak (nak dunio), sebelum sikso di lei (nak akhirat), kiani-kiani kepe'ak o belek (tobat magea</p>	<p>وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ</p>

Allah).

الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٠﴾

22. Apisih gi lebe'ak an zalim kunai tun-tun di nelie minget gen ayat-ayat Tuhan ne, sudo o si melilei kunai he? Sesungguhnya keme smikso tun-tun so mduso.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿١١﴾

23. Sungguh ne nelie keme kiteb gen Musa, mako dang ba udi nak lem keraguan tentang tmimo (Quran), gen keme jmijei kiteb o penunjuk Ismail.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٢﴾

24. Keme jmijei nak antaro o (Bani Israil) kedeu-kedeu tun imem (mileu) di temuyuk (manusio) gen perinte'ak keme, gidong kepeakoatie ne sabar kape'ak o yakin gen ayat-ayat keme.

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَّهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿١٣﴾

25. Sungguhne Tuhan nu lak melie hukuman antaro kape'ak o nak bilei kiamat, tentang jano-jano di kape'ak perselisihan.

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٤﴾

26. Co'a disi te'ang bagei kape'ak o, kedeu-kete umat-umat ne seblum kape'ak o di tak keme mono'ak, sedangkan kape'ak oh (uyo) panuo-panuo nak penan di kes-kes penan diem ne. sesungguhnya tentang yo do o ba jmijei tano-tano (atas kuaso Allah). Co'a kah kape'ak o kemele'ak ne?.

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿١٥﴾

27. Co'a kah kapeak kemle'ak, bahwa keme malo'a bio'a bumei di keing; sudo o keme tem'moak gen sih tanem-tanem, tege'ak ne muk gen bnatang kape'ak o gen kunai kape'ak o dewek? Co'a kah kape'ak o kemele'ak ne?.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿١٦﴾

28. Kape'ak made'ak: apobilo (wakteune) kemengan iniyo, jiko udi tun I sebene'a ne?.

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ

29. Nade'ak ba: wakteu bilei kemengan o,
co'a di manfaat imen bagei tun-tun di
kafir, gen co'a pulo kape'ak o nelie
tempo'ak.
30. Mako berpalinglah udi kunai kape'ak o
dan nemetbah gidong kape'ak oh met
pulo.

صَدِّقِينَ ﴿٢٨﴾

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ

وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَأَنْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُنْتَضِرُونَ ﴿٣٠﴾